



انسانی ٹریفکنگ اور غلامی

انسانی ٹریفکنگ اور غلامی آسٹریلیا میں سنگین جرائم ہیں۔

انسانی ٹریفکنگ (غیر قانونی طور پر انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا) اور غلامی قانون کے خلاف ہیں۔ ان جرائم کا مرتکب ہونے والا شخص جیل جا سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔

اگر آپ کو یا آپ کے کسی واقف کو کوئی خطرہ ہے تو **000** پر پولیس کو فون کریں۔
آسٹریلیا میں پولیس سے رابطہ کرنا محفوظ ہے اور پولیس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔
اگر آپ کو مفت انٹرنیٹ (ترجمان) کی ضرورت ہو تو **131 450** پر فون کریں۔

آسٹریلیا کی حکومت کسی طرح کے حالات میں انسانی ٹریفکنگ یا دور حاضر کی غلامی کو برداشت نہیں کرتی۔

انسانی ٹریفکنگ اور غلامی اسے کہا جاتا ہے کہ انسانوں کو استحصال کے حالات میں پہنسا دیا جائے اور کوئی دوسرا شخص اس سے منافع کما رہا ہو۔ ایسا مردوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ انسانی ٹریفکنگ اور غلامی میں یہ شامل ہو سکتا ہے:

- غلامی، خدمت لینا یا بوٹلوں اور ریستورانوں وغیرہ، تعمیرات، جنگلات، کان کنی یا زراعت جیسے شعبوں میں جبری مزدوری لینا، نیز زبردستی جنسی تعلقات رکھنا۔
- قرض کے عوض بیگار؛
- جنسی استحصال؛
- جبری شادی؛ یا
- اعضا نکالنے کے مقصد سے انسانوں کی ٹریفکنگ

انسانی ٹریفکنگ اور غلامی چھپے ہوئے جرائم ہیں۔

انسانی ٹریفکنگ اور غلامی ایسے جرائم ہیں جن کا پتہ چلانا مشکل ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے لوگ اس لیے مدد طلب نہ کریں کہ وہ اپنا استحصال کرنے والوں کے بدلہ لینے سے ڈرتے ہوں یا مائیگریشن کے حوالے سے اپنی حیثیت خراب ہو جانے سے ڈرتے ہوں۔ کسی شخص کی ٹریفکنگ کا اشارہ دینے والی علامات میں یہ شامل ہو سکتی ہیں کہ :

- ایک شخص کو کام کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہو، دھمکایا جا رہا ہو یا زبردستی کام لیا جا رہا ہو؛
- ایک شخص کو کام کے خراب حالات میں رکھا جا رہا ہو؛
- ایک شخص کو معاوضہ نہ مل رہا ہو یا لگتا ہو کہ وہ اپنے آجر یا کسی تیسرے فریق کا بہت بڑا قرض اتارنے میں لگا ہوا ہے؛ یا
- اسکا پاسپورٹ یا دوسرے ذاتی کاغذات کسی تیسرے فریق کے قبضے میں ہوں اور اس کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ وہ جب چاہے، اپنے کاغذات حاصل کر لے۔

کیا آپ کے لیے یا آپ کے کسی واقف کے لیے ان حالات کا خطرہ ہے؟

اگر آپ کے لیے یا آپ کے کسی واقف کے لیے انسانی ٹریفکنگ یا غلامی کا شکار ہونے کا خطرہ ہے تو مدد کے لیے آسٹریلیا فیڈرل پولیس (Australian Federal Police, AFP) سے (131 237) (131AFP) پر رابطہ کریں یا www.afp.gov.au پر AFP کی ویب سائٹ دیکھیں۔ AFP آپکو محفوظ رکھ سکتی ہے، مشورہ فراہم کر سکتی ہے اور مدد کے لیے دوسرے اداروں سے آپکا رابطہ کروا سکتی ہے جیسے رہائش، مالی مدد، کاؤنسلنگ (ماہرانہ مشورے)، قانونی مشورے اور مائیگریشن کے سلسلے میں مشورے کے لیے۔

ٹریفکنگ کا نشانہ بننے والے افراد کی مدد کے پروگرام (Support for Trafficked People Program) کو حکومت سے مالی وسائل ملتے ہیں اور آسٹریلیا ریڈ کراس (Australian Red Cross) ان لوگوں کی مدد کے لیے یہ پروگرام چلا رہی ہے جو انسانی ٹریفکنگ یا غلامی کا نشانہ بنے ہیں۔

آسٹریلیا میں دوسری خدمات موجود ہیں جو آپکے کام آ سکتی ہیں۔

1800RESPECT آسٹریلیا میں جنسی حملے، عائلی اور گھریلو تشدد کے لیے کاؤنسلنگ (ماہرانہ مشورے) کی قومی سروس ہے۔ یہ سروس فون پر اور آن لائن مفت، رازدارانہ کاؤنسلنگ اور معلومات فراہم کرتی ہے۔ کاؤنسلرز (صلاح کار) آپ کی بات سنتے ہیں، سوالات کا جواب دیتے ہیں اور آپ کے مقامی علاقے میں دوسری امدادی خدمات سے آپ کا رابطہ کرا سکتے ہیں۔

1800 737 732 پر فون کریں یا **1800RESPECT** کی ویب سائٹ **www.1800RESPECT.org.au** دیکھیں۔

کیا آپ کو انٹریپرٹ (ترجمان) کی ضرورت ہے؟

تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس (**Translating and Interpreting Service, TIS**) کو **131 450** پر مفت فون کریں۔ TIS کا ترجمان دوسری خدمات سے بات کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے تاہم TIS ماہرانہ مشورہ فراہم نہیں کرتی۔ یہاں کال کرنا ہمیشہ مفت اور رازدارانہ ہوتا ہے۔

آسٹریلیا میں انسانی ٹریفکنگ اور غلامی کے بارے میں مزید معلومات

Department of Social Services) کی ویب سائٹ **www.dss.gov.au** یا Australian Red Cross کی ویب سائٹ **www.redcross.org.au** پر جائیں۔ آپ Australian Red Cross کو **national_stpp@redcross.org.au** پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔

انسانی ٹریفکنگ اور غلامی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ڈیپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز (Department of Home Affairs) کی ویب سائٹ **www.homeaffairs.gov.au** یا Australian Federal Police کی ویب سائٹ **www.afp.gov.au** پر جائیں اور "human trafficking" پر سرچ کریں۔